



## پی سی بی کا عبدالقادر کی وفات پر اظہار افسوس

لاہور، 6 ستمبر 2019ء:

پاکستان کرکٹ بورڈ لیجنڈری لیگ اسپنر عبدالقادر کے انتقال پر دکھ کا اظہار اور اہلخانہ سے تعزیت کرتا ہے۔

**احسان مانی، چیئرمین پی سی بی:**

اس موقع پر چیئرمین پی سی بی احسان مانی کا کہنا ہے کہ عبدالقادر کی وفات ایک افسوسناک خبر ہے۔ میں پی سی بی کی جانب سے مرحوم کے لواحقین سے افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ ہر پاکستانی کی طرح پی سی بی بھی عبدالقادر کی پاکستان اور کرکٹ کے لیے خدمات پر فخر کرتا ہے۔ ان کی خدمات اور کامیابیاں صرف گراؤنڈ تک محدود نہیں ہیں بلکہ عبدالقادر نے اپنی لیگ اسپن کا تجربہ نوجوان کھلاڑیوں تک پہنچایا۔

احسان مانی نے کہا کہ عبدالقادر نہ صرف گیند پر مہارت رکھتے تھے بلکہ وہ ایک قابل احترام اور معتبر شخصیت تھے۔ کرکٹ کے وسیع تجربے اور ڈسپلن کی بنیاد پر دنیا بھر میں عبدالقادر کا ایک خاص مقام تھا۔

چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ عبدالقادر نے کرکٹ میں اسپرٹ آف کرکٹ کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ انہوں نے ڈسپلن سے اپنے دشمنوں کو بھی دوست بنایا۔ احسان مانی نے کہا کہ دنیائے کرکٹ آج ایک عزیز کرکٹر سے محروم ہوگئی۔ عبدالقادر کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس مشکل گھڑی میں پی سی بی عبدالقادر کے اہلخانہ اور دوستوں کے ساتھ کھڑا ہے۔

**وسیم خان، چیف ایگزیکٹو پی سی بی :**

اس موقع پر چیف ایگزیکٹو پی سی بی وسیم خان کا کہنا ہے کہ عبدالقادر کی وفات پر اظہار افسوس کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عبدالقادر جیسی عظیم شخصیت صدیوں میں ایک ہی بار پیدا ہوتی ہے اور آج پاکستان کرکٹ ایک ایسی ہی محبوب شخصیت سے محروم ہوگئی ہے۔

چیف ایگزیکٹو پی سی بی نے کہا کہ بے شک عبدالقادر اب ہمارے درمیان نہیں رہے مگر  
دنیا کے کرکٹ میں ان کی شہرت اور نوجوان کھلاڑیوں کے پاس ان کا سیکھایا ہوا اسپن  
بولنگ کا آرٹ ہمیشہ زندہ رہے گا۔

وسیم خان نے کہا کہ عبدالقادر اپنے وقت کے ایک عظیم کرکٹر تھے۔ ان کی دوستانہ  
موجودگی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔

لیجنڈری اسپنر عبدالقادر نے 67 ٹیسٹ میچوں میں 236 اور 104 ایک روزہ میچوں میں  
167 وکٹیں حاصل کیں۔

عبدالقادر نے پاکستان کے لیے اپنے 16 سالہ کرکٹ کیریئر کا آغاز دسمبر 1977 میں  
انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ سے کیا۔ عبدالقادر کی ٹیسٹ کرکٹ مینہترین کارکردگی 56  
رنز کے عوض 9 کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنا تھا۔ انہوں نے 1983 سے 1993 تک پاکستان  
کے لیے ایک روزہ کرکٹ کھیلی۔

عبدالقادر 2008 میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر بھی رہے۔

– ENDS –

Media contact:

**Ibrahim Badees Muhammad**

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: [ibrahim.badees@pcb.com.pk](mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk)

M: +92 (0) 345 474 3486

W: [www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)

## **ABOUT THE PCB**

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



[www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk) ●  
@therealpcb ●  
@PakistanCricketBoard ●  
@PakistanCricketOfficial ●  
@therealpcb ●

**PCB Headquarters**  
Gaddafi Stadium  
Ferozpur Road, Lahore  
Pakistan, PO Box 54000  
T: +92 42 3571 7231-4